


Muhammad and the Bible

Allama William GoldSack

محمد اور

الانجيل المقدس

علامہ ڈبلیو۔ گولڈ سیک صاحب



www.noor-e-hayat.com



Rev William Goldsack

Australian Baptist Missionary and Apologist
1871–1957

Muhammad and the Bible

BY

Rev. W. Gold sack

حضرت محمد اور کتابِ مقدس

یعنی

اس دعویٰ کی تحقیق کہ توریت شریف اور انجیل شریف میں آنحضرت کے متعلق پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں

مصنفہ

علامہ ڈبلیو۔ گولڈ سیک۔ صاحب

1955

حضرت محمد اور کتابِ مقدس

بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے پیغمبر حضرت محمد صاحب کے حق میں توریت شریف اور انجیل شریف میں پیشینگوئیاں موجود ہیں اور بعض مسلمان مصنفین نے چند حوالے بھی کتابِ مقدس سے پیش کئے ہیں جن کی بنا پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان میں پیغمبر عرب کی بابت پیشینگوئیاں پائی جاتی ہے۔ محمد صاحب کی بابت پیشینگوئیاں کتابِ مقدس میں تلاش کرنا خالی از علت نہیں ہے کیونکہ اگر مسلمانوں کے خیال کے مطابق حضرت محمد صاحب واقعی آخری اور سب سے بڑے نبی ہیں تو جس طرح سیدنا مسیح کی بابت یہودیوں کے صحیفوں میں پیشینگوئیاں مندرج ہیں اسی طرح ضرور صحائف انبیاء میں حضرت محمد صاحب اپنے آپ کو اُمی نبی سے ملقب کرنا پسند کرتے تھے اور اگرچہ اس لفظ کے صحیح معنی پر اب تک لوگوں میں اختلاف ہے تو بھی اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ نے خود بھی موسوی اور مسیحی صحیفوں کو نہیں پڑھا تھا لیکن ساتھ ہی یہودیوں اور مسیحیوں میں سے ایسے نو مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں تھی جنہوں نے حضرت محمد صاحب کو یہ یقین دلادیا کہ آپ نبی تھے اور آپ کی آمد کی پیشینگوئی کتابِ مقدس میں نہایت واضح طور سے پائی جاتی تھی۔ یہودیوں کے اپنے مسیح کی انتظاری کے بیانات اور مسیحیوں کے مسیح کی دوسری آمد کے خیالات ملا کر ان لوگوں نے ایک آنے والے نبی کے حق میں ایک عام دلیل بنائی جس کے یہودی اور مسیحی دونوں منتظر تھے اور جس کی بابت تمام صحیفوں میں پیشینگوئیاں درج ہیں۔ ان وجوہ کی موجودگی میں یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ حضرت محمد صاحب نے اپنی نسبت قرآن میں یوں تحریر کر دیا کہ **النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي**

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ترجمہ: اُس رسول کہ جو نبی اُمی ہیں پیروی کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ

اپنے ہاں تورات اور انجیل میں (7- سورہ اعراف 157 آیت) اور پھر ایک جگہ اور بھی صریح الفاظ میں اپنی پیشینگوئیوں کا ذکر کیا ہے کہ **وَإِذْ قَالَ**

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ترجمہ: یعنی اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی

اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں (اور) جو (کتاب) مجھ سے پہلے آچکی ہے (یعنی) تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد طه ہوگا (61- سورہ صف 6 آیت)۔

ان واقعات کی موجودگی میں مسلمانوں کے لئے یہ بالکل فطری و قدرتی بات ہے کہ عہد عتیق اور عہد جدید کے صحیفوں میں ان پیشینگوئیوں کو تلاش کریں جن کا حضرت محمد صاحب کو۔۔۔ یقین تھا کہ وہ ان صحیفوں میں مستتر تھیں ہماری غرض یہ ہے کہ ہم اس چھوٹے سے رسالہ میں کتاب

مقدس کے ان خاص مقامات کا مطالعہ کریں جو اہل اسلام بطور حوالہ پیش کرتے ہیں اور جن میں پیشینگوئیوں کے ہونے کے دعوے دار ہیں اور ہمیں یہ دکھانا ہے کہ اس آیت میں بھی کسی ایسے سچے نبی کی بابت پیشینگوئی نہیں ہے جو سیدنا مسیح کے بعد آگے آگا۔

۱۔ استثنیٰ کی کتاب ۱۸ باب ۱۵ سے ۲۱ آیت تک

حضرت محمد صاحب کے حق میں کتاب مقدس کا جو مقام اہل اسلام سب سے زیادہ پیش کرتے ہیں وہ استثنیٰ کی کتاب کے ۱۸ باب کی ۱۵ آیت سے ۲۱ آیت تک ہے جہاں یوں لکھا ہے "خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی سننا۔۔۔ میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہیگا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہیگا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔"

مسلمان مناظرین یہ دکھانے کو کہ اس مندرجہ بالا عبارت میں حضرت محمد صاحب کے حق میں پیشینگوئی ہے ان الفاظ پر زور دیتے ہیں کہ "ان ہی کے بھائیوں میں سے" ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ آنے والا نبی جس کی بابت یہاں پیشینگوئی ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ ان کے بھائیوں میں سے برپا ہو گا اور ان سے مراد بنی اسماعیل ہیں جن سے حضرت محمد صاحب پیدا ہوئے۔ اس لئے اس نبوت کا مصداق سوائے نبی اعظم عربی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا نیز ان الفاظ پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ "تجھ سا" یعنی موسیٰ کی مانند وہ نبی برپا ہو گا چنانچہ بہت سی باتوں میں ان کے درمیان مشابہت بتائی جاتی ہے مثلاً دونوں نے شادی کی اور ان کی اولاد ہوئی اور دونوں نے تلوار چلائی۔ مسیحیوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کام بھی مسیح نے نہیں کیا۔

"بھائیوں" سے بنی اسرائیل مراد ہیں

جب ہم مندرجہ بالا آیات کو اسلامی تاویل کی روشنی میں جانچتے ہیں تو یہ تاویل ایک بڑے مغالطہ پر مبنی معلوم ہوتی ہے۔ سوائے تعصب کے اور کوئی بات اس کے ماننے پر مجبور نہیں کر سکتی کہ "تیرے ہی بھائیوں میں سے" کے فقرہ سے غیر یہود مراد ہیں۔ کیونکہ یہ لفظ "بھائیوں" اسی استثنیٰ کی کتاب میں برابر اس معنی میں مختلف مقامات میں استعمال ہوا ہے۔ اس قسم کے مقامات کے چند حوالوں سے صاف ظاہر ہو جائیگا کہ یہ دعویٰ کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں بالکل بے بنیاد ہے۔ استثنیٰ کی کتاب کے ۱۷ باب کی ۱۴ اور ۱۵ آیت میں "بھائیوں" کا لفظ صریحاً خود اسرائیلیوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے "جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گردا گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناؤں تو تو بہر حال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے۔ تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنا اور پر دہی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔" ان آیتوں کی تشریح کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہود یوں کا پہلا بادشاہ سموئیل نبی نے خود خدا کی ہدایت کے مطابق

ممسوح کیا۔ وہ کوئی اسماعیلی نہیں بلکہ ساؤل بن قیس اسرائیل کے قبیلہ بنیمین میں سے تھا۔ یہ اسموئیل دسویں باب کی ۲۰، ۲۱، ۲۲ ویں آیت سے صاف ظاہر ہے چنانچہ یوں مرقوم ہے۔ "پس سموئیل اسرائیل کے سب قبیلوں کو نزدیک لایا اور قرعہ بنیمین کے قبیلہ کے نام پر نکلا۔ تب وہ بنیمین کے قبیلہ کو خاندان خاندان کر کے نزدیک لایا تو مصریوں کے خاندان کا نام نکلا اور پھر قیس کے بیٹے ساؤل کا نام نکلا۔۔۔۔۔ اور سموئیل نے ان لوگوں سے کہا تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں؟ تب سب لوگ للکار بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ **"بھائیوں"** کا اطلاق اسی قوم یعنی یہود پر آیا ہے۔

علاوہ بریں استثنائی کتاب کے ۱۵ باب میں بھی یہ لفظ بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے چنانچہ مرقوم ہے "اگر تیرا کوئی بھائی خواہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ چھ برس تک تیری خدمت کرے تو تو ساتویں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا۔" (۱۲ ویں آیت) پھر احبار کی کتاب کے ۲۵ ویں باب کی ۲۶ ویں آیت میں لکھا ہے کہ **"لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔"** ان مقامات سے اور ان کی مانند بہت سی دیگر عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا تو اس سے عرب کا قبیلہ قریش مراد نہیں تھا بلکہ خود بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔" ان مقامات سے اور ان کی مانند بہت سی دیگر عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا تو اس سے عرب کا قبیلہ قریش مراد نہیں تھا بلکہ خود بنی اسرائیل ہی مراد تھے اور یہ بات ایسی صاف اور واضح ہے کہ اس کو راز و تعب پر حیرت ہوتی ہے جو اس کے خلاف تاویل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔

مسلم مناظرین کی یہ غلطی اور بھی قابلِ عفو نہیں ہے کیونکہ خود ان کے اپنے قرآن شریف میں یہ لفظ **"بھائی"** اسی معنی میں استعمال ہوا ہے چنانچہ سورہ اعراف کی ۸۴ ویں آیت میں یوں مرقوم ہے **"وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ"** ترجمہ یعنی اور مدین کو بھیجا ان کا بھائی شعیب بولا اے میری قوم۔ قرآن شریف کی اس آیت میں شعیب اپنے قبیلہ کو **"اے میری قوم"** کے الفاظ سے خطاب کر رہے ہیں اور پھر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس آیت پر زیادہ لکھنا فضول ہے کیونکہ الفاظ سے خود ظاہر ہے کہ لفظ **"بھائی"** سے یہاں خود اپنی قوم مراد ہے اسلامی دلیل کے مطابق تو لفظ **"بھائیوں"** سے ادومی مراد ہونگے اس لفظ **"بھائیوں"** کے متعلق ایک اور بات پر غور کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم بفرض محال یہ مان بھی لیں کہ استثنائی کے ۱۸ ویں باب میں **"بھائیوں"** کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس میں اہل اسلام پیش کرتے ہیں تو بھی حضرت محمد صاحب اس سے خارج رہ جاتے ہیں کیونکہ یاد رہے کہ اسماعیل اسرائیل کے بھائی نہیں بلکہ چچا تھے۔ اسرائیل یعنی یعقوب کے بھائی عیسو تھے۔ یہ پیدائش کی کتاب کے ۲۵ ویں باب کی ۲۴ ویں آیت سے ۲۶ ویں آیت تک کی عبارت سے صاف ظاہر ہے **"اور جب اُس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اُس کے پیٹ میں تو اُم ہیں۔ اور پہلا جو پیدا ہوا تو**

سُرخ تھا اور اُپر سے ایسا جیسے پشمینہ اور انہوں نے اُس کا نام عیسور کھل۔^۶ اُس کے بعد اُس کا بھائی یسید اہو اور اُس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اُس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ " لہذا مسلمانوں کی تاویل کے مطابق اسی نبی کو بنی اسماعیل سے نہیں بلکہ ادومیوں میں سے ہونا چاہیے اور کتاب مقدس کے الفاظ سے یہ صاف ظاہر ہے۔ چنانچہ لکھا ہے "تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔" (استثنا ۲۳ باب ۷ آیت)۔

"تجھ سے یا تیری مانند" سے مراد روحانی اور منصبی مشابہت ہے

اس پیشینگوئی کے الفاظ کے مطابق کہ میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سے ایک نبی برپا کروں گا۔ "مسلمانوں کا حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صاحب کے درمیان مشابہت ثابت کرنے کی کوشش کرنا بھی لایعنی ہے۔ یہاں جس مشابہت کی طرف اشارہ ہے وہ کوئی جسمانی مشابہت نہیں ہے بلکہ روحانی اور منصبی مشابہت ہے مسلمان جو جسمانی مشابہت پر زور دیتے ہیں ان کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس مشابہت کو ماننے سے پیش آتی ہیں مثلاً اہل اسلام کو فخر ہے کہ حضرت محمد صاحب اُمی نبی تھے جس کا مطلب ان کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن کتاب مقدس میں موسیٰ کی بابت لکھا ہے کہ "موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی" (اعمال ساتواں باب ۲۲ ویں آیت)۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس بات میں مشابہت دکھانے میں نہایت دقت پیش آئے گی۔

پھر قرآن شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بہت سے معجزے دکھائے چنانچہ مرقوم ہے کہ **وَلَقَدْ جَاءَهُ مُوسَىٰ**

بِالْبَيِّنَاتِ یعنی اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے (2- سورہ بقرہ آیت 92)۔ لیکن خود قرآن شریف کی شہادت سے صاف ظاہر

ہے کہ حضرت محمد صاحب نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا چنانچہ یوں مرقوم ہے **"إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ** یعنی نشانیاں تو اللہ

کے اختیار میں ہیں اور میں تو صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں (سورۃ العنکبوت ۴۹ ویں آیت) پھر سورہ بنی اسرائیل کی ۶۱ ویں آیت میں مرقوم ہے **"وَمَا**

مَنْعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ یعنی اے محمد ہم کو کسی بات نے نہیں روکا کہ تجھے معجزات کے ساتھ بھیجتے سو اس کے کہ انگوں نے ان کو جھٹلایا۔

اگر اس قسم کی شخصی مشابہت پر اصرار کیا جائے تو پھر یہ دکھانے میں نہایت دقت پیش آئے گی کہ کس لحاظ سے حضرت محمد صاحب کو موسیٰ کی مانند کہا جاسکتا ہے؟ یہ کہنا کہ دونوں نے شادیاں کیں اور تلوار چلائی بہت کم اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی طرح تو جھوٹے نبی مسیلمہ اور دوسرے کذاب نبیوں نے بھی یہی کیا۔ یہ بشارت اس نبی کے لئے ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جانے کو تھا۔ لیکن اس پیشینگوئی کے متعلق ایک اور بات پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس باب مذکورہ کی ۱۵ ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ "تیرے لئے" یعنی بنی اسرائیل کے لئے وہ نبی مبعوث ہوگا۔ اب خوب واضح ہے کہ حضرت محمد صاحب نے ایک خاص معنی میں یہودیوں کے لئے نہیں بلکہ عربوں کے لئے اپنے آپ کو پیغمبر بتایا چنانچہ سورہ توبہ میں مرقوم ہے

کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ" یعنی آیا ہے کہ تم پاس رسول تمہارے میں کا (۱۹ویں آیت) اور پھر سورہ ابراہیم کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ " اور کوئی نہیں رسول بھیجا ہم نے مگر بولی بولتا اپنی قوم کی۔ پھر سورہ قصص کی ۴۶ویں آیت میں یوں مندرج ہے " وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ

مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ" یعنی اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی لیکن یہ مہر ہے تیرے رب کی کہ تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جن پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے۔ جب ناظرین مذکورہ بالا تینوں آیات قرآنی کا بغور مطالعہ کریں گے تو صاف معلوم ہو جائیگا کہ یہ دعویٰ کس قدر سچائی سے بعید ہے کہ حضرت محمد صاحب اس بشارت کے مصداق ہیں جس کے مطابق " تیرے لئے " یعنی یہودیوں کے لئے نبی کا برپا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صاحب عبرانی سے ناواقف تھے اور مشہور مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب الاداب میں بیان ہے کہ حضرت محمد صاحب نے اپنے کاتب زید کو عبرانی سیکھنے کی ہدایت کی تاکہ یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت کر سکیں۔ اگر حضرت محمد صاحب ایسے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے جن میں آپ سے پہلے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تو آپ یہودیوں کے لئے ہرگز مبعوث نہیں ہوئے تھے کیونکہ خود قرآن شریف کی شہادت کے مطابق ان میں پیغمبروں کا طویل سلسلہ جاری رہ چکا تھا۔ یہ دو پر معنی الفاظ " تیرے لئے " اس دعویٰ کی تردید کو کافی ہیں کہ حوالہ زیر بحث میں حضرت محمد

صاحب کے لئے پیشینگوئی ہے۔ اس آیت کا صریح مطلب یہ ہے کہ اس بشارت سے مراد سیدنا مسیح ہیں جو ایک خاص معنی میں یہودیوں کے لئے بھیجے گئے جیسا کہ خود مسیح نے ان الفاظ میں دعویٰ کیا ہے " میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا " (متی ۱۵ باب ۲۴ آیت)۔

اس بشارت کے مطابق یہ نبی یہودیوں میں سے برپا ہونے والا تھا

استشنا کا حوالہ صاف طور سے بتاتا ہے کہ نبی معہود یہودیوں کے " درمیان سے " برپا ہونے کو تھا۔ یہ بشارت کسی معنی میں بھی حضرت محمد صاحب پر صادق نہیں آسکتی کیونکہ وہ یہودیہ میں نہیں بلکہ سینٹکڑوں میل کے فاصلہ پر مکہ میں عرب کے بت پرستوں کے درمیان پیدا ہوئے۔ برعکس اس کے اس پیشینگوئی میں مسیح کی بابت بشارت ہے کیونکہ وہ داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوا اور تمام عمران کے درمیان رہا جن میں مرسل ہو کر آیا تھا۔ مسیح بالکل لفظی معنی میں بنی اسرائیل کے " درمیان سے " برپا ہوا اور موسیٰ کی اس عجیب پیشینگوئی کی ہر بات اس میں پوری ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا کام اپنے لوگوں کو گناہ کی غلامی سے مخلصی بخشنا تھا۔ ٹھیک جس طرح موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی کے جوئے سے بچایا تھا اور عین جس طرح موسیٰ نے اسرائیل کی نافرمانی کے سبب سے خدا سے سفارش کی تھی اسی طرح اب مسیح بھی اپنے لوگوں کے لئے بڑا شفیع بن کر خدا تعالیٰ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔

انجیل میں یہ پیشینگوئی سیدنا عیسیٰ مسیح کے حق میں دکھائی گئی ہے

آخری بات اس بشارت کے متعلق یہ ہے کہ کلام الہی یعنی انجیل مقدس میں یہ صاف طور سے بتایا گیا ہے کہ موسیٰ کی یہ پیشینگوئی سیدنا عیسیٰ مسیح کے حق میں ہے۔ چنانچہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے۔ "موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے مجھ سا ایک نبی پیدا کریگا۔ جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا۔ اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنیگا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائیگا بلکہ سموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔" (اعمال ۳ باب ۲۲ آیت) اس کے علاوہ خود سیدنا مسیح نے ایک موقع پر قطعی طور سے ان الفاظ میں کہا کہ "اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لئے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے" (یوحنا ۵ آیت)۔ پس اب نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ استشنا کے اٹھارہویں باب کی بشارت سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اور کسی کے لئے نہیں ہے اور ہر زمانہ میں یہ الہی پیغام لوگوں کو آگاہ کرتا رہا ہے کہ "جو کوئی میری باتوں کو جو وہ میرے نام سے کہیگا نہ سنیگا تو میں اس کا حساب اس سے کہوں گا۔"

(۲) استشنا باب ۳۳ آیت ۲

کتاب مقدس کا دوسرا مقام جو اہل اسلام حضرت محمد کے حق میں پیشینگوئی کے متعلق پیش کرتے ہیں وہ استشنا کی کتاب کے ۳۳ باب کی ۲ آیت ہے جس میں یوں مرقوم ہے "خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا۔ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔" اس آیت کے متعلق مسلم مناظرین یوں لکھتے ہیں کہ "مذکورہ بالا حوالہ تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے حصہ کے الفاظ کہ "خداوند سینا سے آیا ان ہیبت ناک قدرت کے کاموں میں جو حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے ہوئے اور اس مذہب میں جس کی تبلیغ حضرت موسیٰ نے کی پورے ہوئے ہیں اور دوسرے حصہ کے الفاظ کہ "شعیر سے ان پر آشکارا ہوا" حضرت عیسیٰ میں اور اس انجیل میں جس کی آپ نے منادی کی پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے خادم کی زبانی ایک آنے والے واقعہ کا ذکر کرتا ہے اور اس تیسرے حصہ کے یہ الفاظ کہ "وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا" عجیب اور لفظی طور پر حضرت محمد پورے ہوتے ہیں۔"

(دیکھو بائبل محمد۔ مطبوعہ کلکتہ ۱۳۲۰ھ صفحہ ۱۷)

فاران اپنی جغرافیائی حالت کے اعتبار سے محمد صاحب اور

سیدنا مسیح کی بشارت کا موضوع نہیں ہو سکتا

علاوہ بریں استثنائی کتاب کے پہلے باب کی دوسری آیت میں یومِ قوم ہے کہ "مکوہ شعیب کی راہ سے حورب سے قادس برنج تک گیارہ دن کی منزل ہے۔" اب اس حوالہ سے یہ بات اور بھی مستحکم ہو جاتی ہے اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جب شعیب حورب اور قادس برنج کے درمیان واقع ہے اور یہ دونوں آخر الذکر مقامات بحرِ مردار کے جنوب میں ہیں۔ اب ناظرین پر اس مسئلہ کی خرافات بخوبی واضح ہیں اور حیرت تو یہ ہے کہ بہتیرے مشہور مسلمان مصنفوں نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ لفظ جبل شعیب کا علاقہ سیدنا مسیح کی رسالت سے ہے۔ چنانچہ ایک اور مسلمان مصنف رقمطراز ہے کہ "شعیب ملک شام کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر مسیح جایا کرتے تھے اور جہاں آپ کو فرشتوں کی معرفت انجیل کے متعلق احکام ملے" (پروف آف پروفٹ محمد فرمودی بائبل مطبوعہ لاہور صفحہ ۱۲) ہم کو معلوم ہے کہ مسیحیت لحم میں پیدا ہوا ہے اور شمالی صوبہ گلیل کے شہر ناصرت میں پرورش پائی اور تمام عمر اپنے آبائی ملک میں لگوں کو تعلیم دیتا رہا۔ مسیح کا ادوم میں ہونا تو دور کی بات ہے بلکہ برعکس اس کے حزقیل نبی نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ اہل ادوم یعنی جبرئیل شعیب کے باشندے یہودیوں کے سخت مخالف تھے۔ اس نبی کی کتاب کے ۳۵ باب میں ان کے شہر کی تباہی کی پیشینگویی نہایت ہی صفائی سے درج ہے۔ لہذا یہ دعویٰ کہ یہ الفاظ "وہ شعیب سے ان پر آشکارا ہوا" سیدنا مسیح میں اور انجیل میں جس کی آپ نے منادی کی پورے ہوتے ہیں بالکل بے بنیاد ہے اور عقل اور کتاب سے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں۔

یہ نہایت افسوس ناک بات ہے کہ مصنفین مذکورہ فاران کی جغرافیائی حالت سے بھی ایسے ہی ناواقف ہیں جیسے جبل شعیب سے۔ حضرت محمد صاحب کا فاران میں پیدا ہونا یا ان کا وہاں رہنا تو دور کی بات ہے لیکن برعکس اس کے کافی ثبوت موجود ہے کہ جبل فاران مکہ سے جو کہ حضرت محمد صاحب کا مسلمہ پیدائشی مقام ہے جنوب کو پانچ سو میل کے فاصلے پر واقع ہے اور نہ صحیفہ میں اور نہ تواریخ میں کوئی ایسی بات ہے جس سے پیغمبر اسلام کا کوئی بھی علاقہ جبل فاران سے ہونا ثابت ہو سکے۔ فاران کے متعلق کتاب مقدس کی عبارت کو دیکھنے سے یہ بات اور بھی صریح طور پر واضح ہو جائیگی۔ اصل بات یہ ہے کہ فاران سینا کے شمال میں ایک پہاڑ تھا جیسا کہ کتاب مقدس کے اس مقام سے ظاہر ہے کہ "تب بنی اسرائیل دشت سینا سے کوچ کر کے نکلے اور وہ ابر دشت فاران میں ٹھہر گیا" (گنتی ۱۰ باب ۱۲ آیت) علاوہ بریں نہایت صفائی کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے سفر کر کے کنعان کے جنوبی حصہ کے قریب پہنچے تو موسیٰ نے "دشت فاران" سے وعدے کی سر زمین میں مغربی کے لئے چند جاسوس بھیجے۔ چنانچہ یوں مر قوم ہے "اس کے بعد وہ لوگ حصیرات سے روانہ ہوئے اور دشت فاران میں پہنچ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے۔۔۔۔۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو آدمیوں کو بھیج کر وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں (گنتی باب ۱۲: ۱۶) آیت سے باب ۱۳، ۲۱ آیت) ان جاسوسوں کا واپس آنا خدا کے جلال کے ظاہر ہونے کا ایک خاص موقع تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ "اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا" (گنتی باب ۱۳، ۱۰ آیت)۔ اب ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان الفاظ سے کہ "فاران ہی کے پہاڑ سے وہ آشکارا ہوا" کوئی بھی اشارہ اس کی ذات کی طرف پایا جاتا ہے جو مکہ میں فاران سے پانچ سو میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف پیدا ہوا؟ یا اس سے خدا کا وہ خاص جلال مراد ہے جو بنی اسرائیل پر فاران میں بموجب تحریر مذکورہ نمایاں ہوا؟

(۳) پینتالیسواں (۴۵) زبور

چند مسلمان مصنفین دعویٰ کرتے ہیں کہ ۴۵ زبور میں حضرت محمد صاحب کے حق میں بشارت ہے اور وہ خاص کر تیسری چوتھی اور پانچویں آیت اس زبور کی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں حضرت محمد صاحب کا صریح ذکر موجود ہے چنانچہ وہ الفاظ یہ ہیں "اے زبردست! تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حائل کر۔ اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے مہیب کام دکھائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں۔ وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں۔"

اس زبور میں ایک الہی ہستی کا ذکر ہے

اگر ناظرین اس تمام زبور کو جس میں یہ آیتیں پائی جاتی ہیں غور سے پڑھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں حضرت محمد صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے غالباً اس میں پہلے سلیمان بادشاہ کے ایک غیر ملکی شاہزادی کے ساتھ شادی کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اس شادی کا ذکر سلاطین کی پہلی کتاب میں موجود ہے چنانچہ لکھا ہے کہ "اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی اور فرعون کی بیٹی بیاہ لی اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلیم کے چوگرد پوار نہ بنا چکا اسے داؤد کے شہر میں لا رکھا (سلاطین ۳ باب ۱)۔ لیکن اگر غور کے ساتھ اس زبور کا مطالعہ کیا جائے۔ تو ظاہر ہو گا کہ اس کا مطلب اور بھی گہرا ہے اور ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ ہے جو سلیمان سے بہت بزرگ و برتر ہے اور جس میں پراسرار طور سے الوہیت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ چھٹی آیت میں جسے مسلمان مصنفین اقتباس کرتے وقت بڑی احتیاط سے چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو یوں خطاب کیا ہے "تیرا تخت اے خدا ابد لا آباد ہے" صرف یہی آیت مسلمانوں کے دعویٰ کی بے بنیادی ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کیونکہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔

انجیل میں اس زبور کا حوالہ مسیح کے حق میں پیش کیا گیا ہے

برعکس اس کے انجیل میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ زبور سیدنا عیسیٰ مسیح کی شان میں استعمال ہوا ہے جس کی تعظیم مسلمان کلام اللہ و روح اللہ کے خطابوں سے کرتے ہیں۔ چنانچہ یوں مرقوم ہے۔ "مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابد لا آباد رہیگا"۔ (عبرانیوں ۱ باب ۸)۔ خدا کے کلام کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ زبور مسیح کی شان میں ہے اور دلہن سے مسیحی کلیسیا مراد ہے اور یہ خیال کہ مسیحی کلیسیا مسیح کی دلہن سے پاک نوشتوں میں بار بار پایا جاتا ہے اور اس سے زبور زیر بحث کے متعلق جو ہماری رائے ہے اس کی اور بھی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ پولوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتے وقت کہتا ہے "میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں" (۲ کرنتھیوں ۱۱ باب ۲) اور اسی طرح یوحنا رسول اپنی رو یا قلمبند کرتے ہوئے لکھتا ہے "پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لئے سنگار کیا ہو۔" (مکاشفہ ۲۱ باب ۲)۔

مسلمان مناظرین اس زبور میں "تلوار" اور "تیر" کے ذکر سے حجت پیش کرتے ہیں کہ یہ مسیح کے حق میں نہیں ہے اور پھر فخر کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ بھی کبھی جنگی سپاہی تھے گویا اسی بات پر زبور کی بشارت کے مسیحی یا محمدی ہونے کا دار و مدار ہے۔ ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ لفظ

تلوار روحانی معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسی معنی میں یہ لفظ انجیل میں استعمال ہوا بھی ہے چنانچہ پولوس رسول اپنے مسیحی نو مریدوں کو "اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں" جنگ کی ترغیب دیتا ہوا کہتا ہے کہ "روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو" (افسیوں ۶ باب ۱۷) اور جس خوبی کے ساتھ سیدنا مسیح نے اس روح کی تلوار کا استعمال کیا وہ شیطان سے آزمائے جانے کے اس بیان سے ظاہر ہے جو متی کی انجیل کے چوتھے باب میں مرقوم ہے جہاں شیطان کی ہر آزمائش کا جواب مسیح نے الہی نوشتہ سے دیا اور یوں اس کے ہر حملہ کو روکا۔

(۴) غزل الغزلات ۵ باب ۱۰ سے ۱۶ آیت

غزل الغزلات کے پانچویں باب کی ۱۰ ویں آیت سے ۱۶ ویں آیت تک بطور بشارت محمدی کے مسلمان پیش کرتے ہیں۔ یہ عبارت یوں ہے "10 میرا محبوب سُرخ و سفید ہے۔ وہ دس ہزار میں ممتاز ہے۔ 11 اُس کا سر خالص سونا ہے۔ اُس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کٹے سی کالی ہیں۔ 12 اُس کی آنکھیں اُن کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لب دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں۔ 13 اُس کے رُخسار پُھولوں کے چمن اور بلسان کیا بھری ہوئی کیریاں ہیں۔ اُس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رفیق مر ٹپکتا ہے۔ 14 اُس کے ہاتھ زبرد سے مر صُح سونے کے حلقے ہیں۔ اُس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پُھول بنے ہوں۔ 15 اُس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگِ مرمر کے سٹون ہیں۔ وہ دیکھنے میں لبنان اور نُوبی میں ریشکِ سر ہے۔ 16 اُس کا مُنہ از بس شیرین ہے۔ ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ آے یرو شمیم کی بیٹیو! یہ ہے میرا محبوب۔ یہ ہے میرا پیارا۔"

اب تعجب ہے کہ ایک بنگالی زبان کی کتاب "بائبل محمد" کا مسلمان مصنف اس عبارت مذکورہ کے متعلق یوں لکھتا ہے "اگرچہ حضرت سلیمان دانانے شخص موصوف کی تعریف شاعرانہ پیرایہ میں کی ہے تو بھی پورا بیان آخری نبی کے نور اور حسن و جمال کے بالکل مطابق ہے۔ یہی نہیں بلکہ عبارت مرقومہ کے آخری جملہ میں حضرت سلیمان نے روح القدس کی تحریک سے اپنے اس محبوب کا نام بھی بتا دیا کہ وہ محمد ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آج کل کی مروجہ بائبل میں عبرانی لفظ "محمدیم" کا جو ترجمہ درج ہے وہ بسبب لاعلمی کے ہے یا فریب دینے کے لئے۔ انگریزی میں لفظ "محمدیم" کا ترجمہ لولی ہے۔ اگر یہ غلط ہے چاہے تھا کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ معزز یا محمود کیا جاتا۔ ہماری رائے میں مناسب تو یہ تھا کہ اس کا ترجمہ بالکل کیا ہی نہ جاتا" (بائبل محمد صفحہ ۱۹، ۱۸)۔

یہ عبارت خدا اور اس کے لوگوں کی باہمی محبت کو ظاہر کرتی ہے

اس مسلمان مصنف کی مذکورہ بالا عبارت میں جو جہالت دکھائی گئی ہے ہم کو اس کے جواب میں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کتاب مقدس کی ان آیات زیر بحث میں حضرت محمد صاحب کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ غزل الغزلات استعارہ کے پیرایہ میں لکھی گئی ہے۔ اس میں ایک اعلیٰ شاعرانہ رنگ میں اس محبت کے رشتہ کا ذکر ہے جو خدا اور خدا کے برگزیدوں کے درمیان ہے اور یہ مذکورہ بالا عبارت اس بیان کا صرف ایک حصہ ہے۔ کتاب "بائبل محمد" کے مصنف نے عبارت کے سلسلہ کو چھوڑ کر صرف لفظ "محمدیم" لے کر یہ حجت قائم کرنا چاہا ہے کہ یہ ایک ذاتی نام ہے

اور اس سے مراد حضرت محمد صاحب ہیں! دراصل یہ لفظ علم یعنی کوئی خاص نام نہیں ہے اور نہ اس کا ترجمہ محمد ہے۔ یہ اسم نکرہ ہے اور اس کا اسم مشترک ہونا اس سے ظاہر ہے کہ یہ بطور واحد کے نہیں بلکہ جمع کے صیغہ میں استعمال ہوا ہے اور اکثر کتاب مقدس میں چیزوں اور لوگوں دونوں کے لئے پایا جاتا ہے۔ ہم یہ دکھانے کے لئے یہ لفظ نہ اسم خاص ہے اور نہ اس کے معنی محمد ہیں چند حوالے پیش کرتے ہیں جہاں یہ لفظ آیا ہے اور اس دعوے مذکورہ کا پتہ لگ جائے گا۔ اگر ناظرین حز قیل نبی کی کتاب کے ۲۴ ویں باب کی ۱۶ ویں آیت پڑھیں گے تو یوں لکھا پائیں گے "اے آدم زاد دیکھ میں تیری منظور نظر (محمدیم) کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کرونگا۔ لیکن تو نہ ماتم کرنا اور نہ رونا۔ اور نہ آنسو بہانا۔" پھر اسی باب کی ۱۸ ویں آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حز قیل نبی کی منظور نظر سے مراد اس کی بیوی ہے جسے خدا نے وفات دی۔ کیا یہاں بھی یہی دلیل پیش کی جائے گی کہ چونکہ اس باب مذکورہ کی سولہویں آیت میں عبرانی لفظ "محمدیم" ہے اس لئے یہ بھی بشارت محمدی ہے!

علاوہ بریں اسی طرح پہلے سلاطین کے بیس باب کی چھٹی آیت میں چیزیں ہیں چنانچہ لکھا ہے "لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجو نگا سو وہ تیرے گھر اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لینگے اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس (محمدیم) ہو گا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے۔" پوری عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں ارام کے بادشاہ بن ہدکا ذکر ہے جس نے شاہ اسرائیل کے پاس قاصد بھیج کر دھمکی دی کہ وہ اسرائیل کے گھروں کی تمام چیزیں جو ان کی نگاہ میں نفیس ہیں لوٹ لے جائیگا اب ہم پوچھتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی یہ دلیل پیش کی جاسکتی ہے کہ چونکہ یہاں عبرانی لفظ محمدیم آیا ہے اس لئے یہ بشارت محمدی ہے؟ عبارت کے سلسلہ کے علاوہ جس سے مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے کیا تواریخ سے کہیں بھی اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ کسی غیر ملکی بادشاہ نے حضرت محمد صاحب کو قید کیا اور ان کو بطور اسیر غیر ملک میں لے گیا؟ غرضیکہ مسلمان مصنف کی سب باتیں مہمل ہیں اور ان سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ بغیر عبرانی کا علم حاصل کئے چند عبرانی الفاظ کے معنوں کے ذریعہ سے دلیل نکالنے کی جرات کرتے ہیں وہ اپنے علمی افلاس کا ثبوت دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری دلیل ہی طفلانہ ہے اور قابل توجہ نہیں۔ اگر لفظ محمدیم اور لفظ محمد میں مشابہت ہونے کے سبب سے حضرت محمد صاحب کے لئے بشارت سمجھی جاتی ہے تو پھر قرآن میں ہندورام اوتار کے لئے بشارت موجود ہونے کی دلیل کیوں نہ پیش کریں کیونکہ قرآن میں لفظ روم آیا ہے۔

(۵) یسعیاہ باب ۲۱ آیت ۷

یہ بڑے فسوس کی بات ہے کہ مسلمان لوگ اکثر حضرت محمد صاحب کی بشارت کی تلاش کے شوق میں کتاب مقدس کے مقامات کی عجیب و بے معنی تاویل کرتے ہیں۔ اگر پاک کتاب میں کہیں ان کو لفظ "تلوار" مل جاتا ہے تو بس پھر کیا ہے؟ حضرت محمد صاحب کی بشارت کا ایک غل مچ جاتا ہے اسی طرح اگر لفظ اونٹ ان کو کہیں نظر پڑ جاتا ہے تو اس پر بھی کہنے لگتے ہیں کہ آخرش ایک عربی شریعت دینے والے کی صریح پیشینگوئی مل گئی۔ یسعیاہ نبی کے ۲۱ باب ۷ آیت کی جو تاویل مسلمانوں نے کی ہے اسے دیکھ کر ہم نے یہ باتیں لکھی ہیں اور جس غلطی کی ہم نے شکایت کی ہے اس کی یہ

تاویل ایک عمدہ نظیر ہے۔ چنانچہ وہاں مرقوم ہے "اس نے سوار دیکھے جو دو دو آتے تھے اور گدھوں پر اور اونٹوں پر سوار اور اس نے بڑے

غور سے سنا۔ یہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ چند مسلمان مصنفوں کو اس میں بھی بشارت محمدی معلوم ہوئی ہے اور ہم کو بتایا جاتا ہے کہ گدھوں پر سوار سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں کیونکہ وہ ایک مرتبہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ اونٹوں پر سوار سے حضرت محمد صاحب مراد ہیں کیونکہ آپ اکثر اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے۔ گویا کوئی اور سوائے حضرت محمد صاحب اونٹ پر سوار ہی نہیں ہوا اور نہ مسیح کے سوا اور کوئی گدھے پر سوار ہو کر کبھی یروشلم میں داخل ہوا؟

کتاب مقدس کی اس عبارت میں بابل کی بربادی کی پیشینگوئی ہے

عہد عتیق اور جدید میں حضرت محمد صاحب کی نسبت پیشینگوئی کے پتہ لگانے کی بہتری کوششیں ہم نے دیکھی ہیں مگر یہ سب سے بڑھ کر مضحکہ خیز ہے۔ اس میں تو ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیا گیا کیونکہ اس تمام عبارت میں عربی نبی کی طرف اشارہ تک بھی پایا نہیں جاتا۔ اس بات کو غور سے پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ اس میں بابل کی آنے والی تباہی کی پیشینگوئی ہے اور جب سو برس بعد دارائے فارس نے اس پر قبضہ کیا تو یہ نبوت پوری ہوئی۔ اگر مصنف موصوف اس باب کی ۹ ویں آیت کو پڑھ لیتے تو جو انہوں نے لکھا ہے اس کے وہ ہر گز مجاز نہ تھے کیونکہ وہاں صاف طور سے بابل کا ذکر آیا ہے چنانچہ لکھا ہے "اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا گر پڑا۔" ایسے ایسے مقامات سے مسلمانوں کو نبوت ڈھونڈ کر نکالتے دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو اپنے نبی کے لئے بشارت کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔

(۶) یسعیاہ ۴۲ باب آیت

یسعیاہ کا ۴۲ واں باب بھی اکثر حضرت محمد صاحب کی بشارت کی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے "دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں۔ میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ وہ قوموں۔۔۔ میں عدالت جاری کریگا۔

انجیل میں یہ عبارت سیدنا عیسیٰ مسیح کے لئے بتائی گئی ہے

ہم اس عبارت مذکورہ کی زیادہ تشریح کر کے ناظرین کا وقت ضائع نہ کریں گے اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ یہ بشارت صفائی کے ساتھ انجیل میں سیدنا عیسیٰ مسیح میں پوری ہوتی ہوئی ظاہر کی گئی ہے اور چونکہ خدا نے اپنے کلام کی خود تشریح کر دی ہے اس لئے اس کے متعلق انسانی تصورات لے کر زیادہ بحث کرنا فضول ہے انجیل کی عبارت مذکورہ جس سے یسعیاہ کی اس نبوت کی تشریح ہوتی ہے وہ یہ ہے "اور اس نے (سیدنا عیسیٰ نے) ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو یسعیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا۔ میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے۔ میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور وہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دیگا۔"

یسعیاہ ۴۲ وال باب ۱۱ ویں آیت

اکثر اوقات مسلمان مذکورہ بالا باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یسعیاہ نبی کے بیالیسویں باب کے دوسرے حصہ میں ایک اور شخص کی صریح بشارت موجود ہے اور وہ حضرت محمد صاحب ہیں۔ خاص کر وہ اس باب کی گیارہویں آیت پیش کرتے ہیں جس میں لکھا ہے "بیابان اور اس کی بستیاں۔ قیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ سلح کے بسنے والے گیت گائیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لکاریں"۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اس آیت میں لفظ قیدار سے صریحاً عرب کے لوگ مراد ہیں اور اس لئے اس میں محمد صاحب کی بشارت پائی جاتی ہے۔

اس عبارت میں مسیح کی سلطنت کو پھیلانے کا بیان ہے

مذکورہ بالا اسلامی تاویل کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں حضرت محمد صاحب کا بیان بالکل نہیں ہے بلکہ مسیح کی سلطنت کی وسعت کے تذکرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی مرضی ہے کہ ایک روز اہل قیدار بھی اس سلطنت کی خوشی میں شریک ہوں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صاحب قبیلہ قیدار میں سے نہیں بلکہ قبیلہ قریش سے تھے اور اس لئے اس آیت میں حضرت محمد صاحب کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ علاوہ بریں دسویں آیت میں لکھا ہے "خداوند کے لئے ایک گیت گاؤ" لیکن اسلامی عبادت میں گانا بالکل منع ہے اس لئے عبارت زیر بحث سے اسلام مراد نہیں ہو سکتا حضرت محمد صاحب کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ **قال ابن مسعود - رضی اللہ تعالیٰ عنہ :- الغناء یُنبت النفاق فی القلب؛** **کما یُنبت الماء الزرع** "یعنی گیت گانا اسی طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی زراعت پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ بات کیسے مان لی جائے کہ ایک ایسی بشارت جس میں لوگوں کے اپنے منجی کے لئے گا کر خوش ہونے کا ذکر ہے بشارت محمدی ہے؟

(۷) حقوق ۳ باب ۳ آیت

عہد عتیق کا ایک اور مقام جو حضرت محمد صاحب کی بشارت کی دلیل میں مسلمان پیش کرتے ہیں وہ حقوق نبی کی کتاب کے تیسرے باب کی تیسری آیت ہے جس میں یوں لکھا ہے "خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے۔" تیمان مکہ سے جہاں حضرت محمد صاحب پیدا ہوئے تھے پانچ سو میل کے فاصلہ پر ہے جنہوں نے کتاب مقدس کے قدیم جغرافیہ کا مطالعہ کیا ہے ان کو معلوم ہے تیمان فاران کے قریب تھا اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ آخر الذکر مقام مکہ سے شمالی جانب کو ۵۰۰ میل کے فاصلہ پر تھا اور تیمان حقیقت

میں ادومیوں کے ملک کا ایک حصہ تھا اور یہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے "ادوم کی بابت رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ کیا تیمان میں خرد مطلق نہ رہی" (یرمیاہ ۴۹ باب ۷ آیت) اور پھر مرقوم ہے "اس لئے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ادوم پر ہاتھ چلاؤں گا۔ اس کے انسان اور حیوان کو نابود کروں گا اور تیمان سے لے کر اسے ویران کروں گا۔" (حزقیل ۲۵ باب ۱۳)۔ ان حوالوں سے تیمان کا موقع صاف ظاہر ہے جو بحیرہ مردار سے کئی میل کے فاصلہ پر نہ ہوگا۔ اس میں حضرت محمد صاحب کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے اب رہا ان الفاظ کے متعلق کہ "قدوس کوہ فاران سے (آیا)" سو پیشتر دکھایا ہے کہ حضرت محمد صاحب کا تعلق فاران سے اتنا ہی تھا جتنا کہ ہندوستان سے کیونکہ یہ جگہ مکہ سے کم از کم پانچ سو میل دور تھی اور غالباً حضرت محمد صاحب کو اس کی خبر تک نہ تھی۔

اس آیت میں الہی وجود کا بیان ہے

اگر ہم بڑے غور سے اس آیت زیر بحث کا مطالعہ کریں اور سلسلہ کی آیتوں کو ملا کر پڑھیں تو معلوم ہو جائیگا کہ اس میں کسی انسانی ذات کا بیان نہیں ہے بلکہ خود خدا کا ذکر ہے۔ یہ خدا تھا جو تیمان سے آیا اور وہ قدوس جو کوہ فاران سے آیا۔ قرآن اور حدیثوں میں بہت سے مقامات ہیں جو حضرت محمد صاحب کی بے گناہی کے برخلاف گواہی دیتے ہیں پس حقوق نبی کے صحیفے کی آیت مذکورہ کا بیان محمد صاحب کے لئے ہر گز نہیں ہو سکتا۔ اور نہ حضرت محمد صاحب کی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ "اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا یا یہ کہ اس کی قدیم راہیں ہیں" (۱۶ویں آیت) غرضیکہ ساری عبارت کا موضوع خدا ہے اور اس آیت کو حضرت محمد صاحب کی بشارت بتانا سخت تعصب پر مبنی ہے۔

(۸) مرقس کی انجیل کا پہلا باب اور ساتویں آیت

مسلمان نہ صرف عہد عتیق میں حضرت محمد صاحب کی بشارتوں کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ وہ اسی طرح عہد جدید میں بھی بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب کے حق میں پیشینگوئی صفائی سے درج ہے۔ اب ہم انجیل کے چند خاص ایسے مقامات پر غور کریں گے پہلی پیشینگوئی جس کا ہم مطالعہ کریں گے مرقس کی انجیل کے پہلے باب کی ساتویں آیت میں بتائی جاتی ہے جہاں لکھا ہے "میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے۔ میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تمہ کھولوں۔" مسلمان کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ نے صاف لفظوں میں سب سے آخری نبی اعظم محمد صاحب کے آنے کی بشارت دی ہے۔

یہ الفاظ حضرت یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ہیں

جس نے مسیح کے حق میں شہادت دی

چند مسلمان مصنفوں کے دعویٰ مذکورہ کی اس چالبازی کی نظیر ملنا نہایت مشکل ہے کیونکہ یہ تو ایک لمحہ کے لئے بھی تسلیم کرنا محال ہے کہ جن مصنفوں نے آیت مذکورہ کو حضرت محمد صاحب کے لئے بتایا ہے انہوں نے اس مقام کی پوری عبارت کو نہیں پڑھا ہوگا ان کو اپنے مسلمان ناظرین کی لاعلمی کا پورا یقین ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا کر ان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس آیت کے الفاظ مذکورہ کا قائل مسیح ہے اور مراد اس سے حضرت محمد صاحب ہیں۔ کیونکہ اصل عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ کے نہیں بلکہ ان کا قائل یوحنا پستسمہ دینے والا ہے یعنی یحییٰ نبی ہے۔ چنانچہ چوتھی اور چھٹی آیتوں میں یوں مرقوم ہے "یوحنا آیا اور بیابان میں پستسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کے پستسمہ کی منادی کرتا تھا اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔"

علاوہ بریں یوحنا نے یہ گواہی حضرت محمد صاحب کے لئے نہیں دی جو چھ سو برس بعد ہوئے بلکہ مسیح کے حق میں جو ان کے درمیان زندہ موجود تھے۔ چنانچہ دوسرے مقام میں یوں لکھا ہے "یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے پستسمہ دیتا ہوں۔ تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں" (یوحنا اباب ۲۶، ۲۷) اب اس عبارت مرقومہ سے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ آیت زیر بحث کے الفاظ کا کہنے والا یوحنا پستسمہ دینے والا ہے اور اس نے سیدنا عیسیٰ مسیح کے لئے ان الفاظ کو استعمال کیا اور کسی صورت میں بھی حضرت محمد صاحب کی طرف اس میں اشارہ نہیں پایا جاتا اور مسلمان مصنف سے اگر یہ دریافت کیا جائے کہ حضرت محمد صاحب نے روح القدس سے لوگوں کو کیونکر پستسمہ دیا تو اسے جواب دینا نہایت مشکل ہوگا۔

(۹) یوحنا اباب آیت ۱۹ سے ۲۱ تک

ایک اور مقام جو اہل اسلام حضرت محمد صاحب کی بشارت کی دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ یوحنا رسول کی انجیل کے پہلے باب کی ۱۹ ویں آیت سے ۲۱ ویں آیت تک ہے چنانچہ وہاں لکھا ہے "اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلیم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔"

مسلمان عام طور پر اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ یہاں تین نبیوں کا ذکر ہے یعنی مسیح، ایلیاہ اور ایک تیسرا غیر معروف نبی جس کے لئے "وہ نبی" کیا گیا ہے اور بڑے وثوق کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد نبی آخر الزماں حضرت محمد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی مسیح کے علاوہ ایک اور بڑے نبی کے منتظر تھے اور جب یوحنا نے انکار کیا کہ نہ میں مسیح ہوں اور نہ ایلیاہ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ ضرور وہ نبی ہوگا دوسرے لفظوں میں وہ حضرت محمد کے منتظر تھے (بائبل محمد۔ صفحہ ۲۸-۳۲)۔

بد قسمتی سے ذی فہم لوگوں کو اس تاویل مذکورہ کے قبول کرنے میں چند مشکلات پیش آتی ہیں۔ اول تو یہ غلط ہے کہ یہودی کسی ایسے نبی کے منتظر تھے جو مسیح کے بعد آئیگا اور نہ اس اعتقاد کا کتاب مقدس میں کہیں نام و نشان ہے۔

یہودی مسیح کے ایک پیشرو کے منتظر تھے ان کو اس کے

کسی حاشین کا انتظار نہ تھا

علاوہ بریں یہ بیان کہ وہ مسیح کے بعد کسی نبی کے منتظر تھے اس سوال کے خلاف ہے جو انہوں نے یوحنا سے کیا کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یوحنا سے سوال کرنے والوں کی رائے میں مسیح خود اس وقت تک نہیں آیا تھا اس لئے یہودیوں کا یوحنا سے یہ پوچھنا کہ کیا تو وہ نبی ہے جو مسیح کے بعد آنے والا ہے بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہودی مسیح کی آمد سے پیشتر نبیوں کا انتظار کر رہے تھے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ استثنائے اٹھارہویں باب میں جس نبی کی بشارت ہے اس سے خود مسیح مراد ہے۔ بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یوحنا پستہ دینے والے کی مانند وہ بھی مسیح کے نقیبوں میں سے کوئی ہے چنانچہ یہ بات انجیل کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے "پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بیشک وہ نبی ہے اوروں نے کہا یہ مسیح ہے" (یوحنا ۷ باب ۴۰) غرضیکہ یہودیوں کے پیش نظر جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یوحنا مسیح ہے یا مسیح کے نقیبوں میں سے ایک نقیب۔ مسیح کے بعد کسی نبی کے آنے کا سوال اس وقت تک نہیں اٹھ سکتا جب تک مسیح خود نہ آجائے۔ ایک دوسرے مقام سے پتہ لگتا ہے کہ بعضوں کا خیال تھا کہ یرمیاہ یا کوئی اور نبی مسیح کے پیشرو کی حیثیت سے پھر ظاہر ہوگا چنانچہ لکھا ہے "جب یسوع قیصر یہ فلپی کے علاقہ میں آیا۔ تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا پستہ دینے والا کہتے ہیں۔ بعض ایلیاہ یرمیاہ یا نبیوں میں سے کوئی" (متی ۱۶ باب ۱۳، ۱۴) ان تمام باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس سارے مسئلہ پر یہودیوں کا خیال کس قدر غیر واضح اور غیر قابل اعتبار تھا اور اس لئے یہ بات مد نظر رکھ کر کہ انہی یہودیوں نے یسوع کو نہ پہچانا اور اسے مسیح تسلیم کرنا تو درکنار خدا کا نبی بھی اس کو نہیں مانا بلکہ اس کا انکار کیا اور آخر کار اسے مار ڈالا کوئی تعجب نہیں کہ انہوں نے صحیفے سمجھنے میں غلطی کی اور یہ بھی سمجھے کہ وہ نبی جس کی بشارت موسیٰ نے دی وہ مسیح کے سوا کوئی اور ہے۔

کتاب مقدس سے پتہ لگتا ہے کہ بعض یہودی زیادہ صاف دل تھے اور بعد میں جب انہوں نے سیدنا مسیح کے معجزے دیکھے تو ان کو مجبوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا اور ان کو ماننا پڑا کہ "وہ نبی" یہی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ "پس جو معجزہ اس نے دکھا یا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے" (یوحنا ۶ باب ۱۴)۔

مسیح اور وہ نبی سے ایک ہی شخص مراد ہے۔

یہ دعویٰ بار بار ایسے زور سے پیش کیا گیا ہے کہ بعض کم فہم لوگوں نے یقین کر لیا ہے کہ اس دعوے کی بنیاد واقعی پاک نوشتوں کی تحریر ہے۔ اس سوال پر ہم دیگر آیات سے زیادہ تفصیل کے ساتھ غور کریں گے۔ "بائبل محمد" کا مصنف یہ حجت پیش کرتا ہے کہ یوحنا کے ان مقامات کی مسیحی تفسیر اگر درست ہے اور اگر واقعی مسیحی کلیسیا کی تعلیم کے لئے روح پاک دی گئی ہے تو مسیحیوں میں پھر جنگ کا نام تک نہ ہوتا اور ان میں فرقہ بندی نہ پائی جاتی اور پھر بلا کسی شک و شبہ کے یہ مصنف بتاتا ہے کہ یہ پاراقلیط معبود خود محمد صاحب ہی ہیں۔ لیکن اب وہ نہیں بتاتا کہ پھر مسلمان آپس میں کیوں جنگ کرتے ہیں اور شیعہ اور سنی آپس میں ایک دوسرے پر کیوں تبرا کہتے اور لعنت بھیجتے ہیں؟ اگر اس مصنف کے بیان کے مطابق پاراقلیط معبود کا یہ منصب ہے کہ ان باتوں سے اپنے لوگوں کو بچائے تو آنحضرت کیوں اس میں ناکام رہے؟ اور خود انہوں نے کیوں پیشینگوئی کی کہ اسلام میں تہتر فرقے ہو جائیں گے جن میں ایک کے سوا تمام دوزخی ہوں گے۔ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ معترض کی دلیل بالکل غلط ہے۔ خدا نے زبردستی لوگوں کو ایک ہی عقیدے پر رکھنے کا وعدہ نہیں کیا اور نہ اس نے یہ کہا ہے کہ میری روح مسیحی کلیسیا کے نام نہاد مسیحیوں کی خواہشات کو دور کر دیگی سوال واقعی یہ ہے کہ کیا مذکورہ بالا آیتوں کی صحیح اور راست تاویل کرنے سے حضرت محمد صاحب کی بشارت ان میں پائی جاتی ہے یا نہیں اور اب ہم اس سوال کے جواب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

(۱) پاراقلیط الہی روح ہے

پہلی بات جو ہم دکھانا چاہتے ہیں اس میں تاویل کی کوئی ضرورت نہیں صرف آیت کو پڑھنے سے ہی یہ مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ یہ پاراقلیط معبود "روح حق" (یوحنا ۱۴ باب ۱۷) اور "روح القدس" (یوحنا ۱۴ باب ۲۶ آیت)۔ اب ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کوئی بشر نہیں بلکہ الہی روح ہے اور حضرت محمد صاحب نے کبھی الہی روح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ اپنی انسانیت کا ہمیشہ بار بار اعتراف کرتے رہے چنانچہ اس قسم کا فقرہ اکثر قرآن میں ملتا **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ** یعنی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ (18- سورہ کھف آیت 110)

(۲) پاراقلیط ابد تک رہیگا

ان الفاظ سے یہ بات اور بھی تقویت پاتی ہے کہ یہ پاراقلیط جس کا وعدہ ہے انسان سے کہیں افضل ہے "وہ تمہیں دوسرا مددگار بختیگا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے" (یوحنا ۱۴ باب ۱۶)۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات حضرت محمد صاحب کے لئے کیونکر سچی ہو سکتی ہے جو مدینہ میں مدفون ہیں۔ کیا حضرت محمد صاحب نے اُحد کے میدان میں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر تنبیہ نہیں کی **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ**

انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ یعنی محمد تو ایک رسول ہے۔ ہو چکے اس سے پہلے بہت سے رسول تو پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو اٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ (آل عمران آیت ۱۴۴)۔

(۳) پار اقلیط دکھائی نہیں دیگا

اب ایک اور بات اس روح معبود کے متعلق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے نہاں ہو گا چنانچہ لکھا ہے کہ وہ ایک روح ہے "جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور جانتی ہے" (یوحنا ۱۴ باب ۱۷)۔ اس قسم کے الفاظ حضرت محمد صاحب کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی انسان کی نسبت یہ باتیں کہی جاسکتی ہیں۔ یہ صرف اس روح الہی پر ہے صادق آتی ہیں جس کے متعلق کلام الہی سکھاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ مسیح کے وعدہ کے مطابق وہ بھیجا گیا۔

(۴) پار اقلیط لوگوں کے دلوں میں سکونت کرے گا

پھر یوں مرقوم ہے کہ پار اقلیط روحانی طور سے لوگوں کے دلوں میں رہیگا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ "وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا" (یوحنا ۱۴ باب ۱۷) اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں قسم کے الفاظ حضرت محمد صاحب کے لئے استعمال کرنا بالکل غیر ممکن ہے۔

(۵) پار اقلیط مسیح کے رسولوں کے زمانہ حیات میں نازل ہوا

اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی چوتھی اور پانچویں آیتوں میں لکھا ہے کہ پار اقلیط معبود چھ سو برس بعد دُور ملک عربستان میں نہیں بلکہ خود انہی شاگردوں پر جن سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یروشلیم میں نازل ہوگا۔ "چنانچہ لکھا ہے" ⁴ اور اُن سے مل کر اُن کو حکم دیا کہ یروشلیم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اُس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سُن چکے ہو۔ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے پتیسمر دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد رُوحِ اللہ سے پتیسمر پاؤ گے"۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ شاگردوں کو مسیح کے وعدہ کے پورا ہونے کا انتظار کرنا تھا اور اس کے پورا ہونے کے بعد ہی وہ تمام دنیا میں انجیل کی تبلیغ کے بڑے حکم کی تعمیل کر سکتے تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا مسیح نے دنیا چھوڑنے سے پیشتر شاگردوں کو اکٹھے کر کے کہا۔ "دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک عالم بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر

میں ٹھہرے رہو" (لوقا ۲۴ باب ۴۹) مسیح کے ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ پاراقلیط ان کے زمانہ حیات میں نازل ہونے کو تھا جن سے مسیح مخاطب ہوا اور یہ سب سے پہلے یروشلیم میں ہوا۔ انجیل کے الفاظ سے یہ بالکل واضح ہے اور صرف وہی جن کو تعصب نے اندھا کر رکھا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں حضرت محمد صاحب کی بشارت ہے

(۶) پاراقلیط آئندہ کی خبریں دے گا

انجیل مقدس بہ مطابق حضرت یوحنا کے ۱۶ باب کی ۱۳ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ سیدنا عیسیٰ مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ وہ روح معبود "تم کو آئندہ کی خبریں دیگا" لیکن ہر شخص جو قرآن سے واقف ہے جانتا ہے کہ حضرت محمد صاحب آئندہ کی باتوں سے بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف کی دسویں آیت میں لکھا ہے وَمَا أُدرِي مَا يُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ کیا کیا جائیگا میرے اور تمہارے ساتھ۔ پھر سورۃ الانعام کی ۵۰ آیت میں ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ یعنی میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے اور نہ یہ کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں۔ اب اس روح کا بیان جو مسیحی کلیسیا کی تعلیم کے لئے بخشا گیا تھا کیسا مختلف ہے اس روح کی بابت ہم پڑھتے ہیں کہ پولوس رسول افسس کی کلیسیا کے بزرگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے "روح القدس" ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں میرے لئے تیار ہیں۔"

پھر دوسرے مقام پر لکھا ہے "اگس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آکر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا کہ روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلیم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے" (اعمال ۲۱ باب ۱۰، ۱۱)۔

یہ پیشینگوئیاں چند دنوں بعد حرف بحرف پوری ہوئیں اور یوں صفائی سے ظاہر کیا کہ سیدنا عیسیٰ مسیح نے جس "روح" کا وعدہ اپنے شاگردوں سے کیا تھا نازل ہوا اور وعدہ کے مطابق اس نے آنے والی باتوں کی خبر دی۔

(۷) پاراقلیط کے آنے کا واقعہ اعمال کے دوسرے باب میں مرقوم ہے

انجیل مقدس کی کتاب اعمال کے دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح کے وعدہ کے مطابق روح القدس کے نزول کا واقعہ وہاں مرقوم ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خاص مسیح کے شاگردوں پر وح کا نزول ہونے کو تھا اور پھر اعمال کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ روح پاک کی یہ آمد بڑی طاقت اور

قدرت کے ساتھ ہونے کو تھی۔ مسیحی نے ان سے کہا تھا "جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے" (۸ آیت) اس پیشینگوئی کے مطابق چند دنوں کے بعد جب شاگرد ایک خاص مقام پر جمع تھے تو یکایک "سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانی بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی" (اعمال ۲ باب ۴) اور یوں یہ بڑا وعدہ پورا ہوا اور شاگرد اس نئی طاقت سے معمور ہو کر ہر جگہ زندگی کے کلام کی منادی کرنے کو نکلے اور "ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے" (اعمال ۲ باب ۴۳)۔

پس عیاں ہے کہ یہ تھا روح القدس کا وعدہ جسے حضرت یوحنا نے ظاہر کیا اور یوں یہ وعدہ پورا ہوا جسے حضرت لوقا نے تحریر کیا۔ اب ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اس پیشینگوئی کو حضرت محمد صاحب کی بشارت بتانا جو جسم اور خون میں ایک انسان تھے اور جن کو ہزاروں نے دیکھا اور جو ملک عرب میں وقت معہود سے چھ سو برس بعد پیدا ہوئے بالکل ناممکن ہے۔

(۸) یوحنا چودہ باب ۳۰ آیت

اس رسالہ کو ختم کرنے سے پیشتر ایک اور بشارت پر ہم غور کریں گے۔ یہ یوحنا کے چودہ باب کی ۳۰ آیت میں ہے جہاں پر لکھا ہے "دنیا کا

سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں" بہترے مسلمان مصنفوں نے یہ حوالہ حضرت محمد صاحب کی بشارت میں پیش کیا ہے۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب مقدس کی سب سے عمدہ تفسیر خود کتاب مقدس ہے اور اس آیت زیر بحث پر یہ بات خوب صادق آتی ہے اگر ہم ناظرین کو کتاب مقدس کے وہ مقامات بتادیں جہاں دنیا کے سردار کا ذکر آیا ہے تو ان کو فوراً معلوم ہو جائیگا کہ یہ خطاب پیغمبر عرب محمد صاحب کے لئے استعمال نہیں ہوا بلکہ شیطان کے لئے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ یوحنا کے بارہویں باب کی ۳۱ آیت میں لکھا ہے "اب دنیا کا سردار نکال دیا

جائیگا" اور پھر یوحنا کے ۱۶ باب کی ۱۱ آیت میں ہے "دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے" اور دوسرے کرنتھیوں کے ۴ باب کی ۴ آیت میں مر قوم ہے "ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے سردار نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر پڑے" اور پھر افسیوں کے دوسرے باب کی پہلی دوسری آیتوں میں یوں آیا ہے "اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے" اب ان مقامات پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور بلا کسی شک و شبہ کے ان سے صاف ظاہر ہے کہ جہان کے سردار سے شیطان کے سوا اور کوئی مراد نہیں ہے۔ یوں اس آیت مذکورہ کو حضرت محمد صاحب کی بشارت کی سند میں پیش کر کے مسلمان نہایت ہی سخت غلطی میں پڑے اور بڑی صفائی کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ کتاب مقدس کی کسی ایک عبارت کو اس کے سلسلہ سے الگ لے کر اس سے مطابقت رکھنے والی آیتوں سے قطع نظر کر کے کسی قسم کی تاویل کرنا فہیم لوگوں میں مضحکہ اڑانا ہے۔

سیدنا عیسیٰ مسیح آخری پیغمبر ہیں

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کتاب مقدس کا مطالعہ غور سے کرے گا اس پر نہایت صفائی سے واضح ہو جائے گا کہ مسیح کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے خود فرمایا ہے "آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔" (مرقس باب ۳۱: ۱۳) آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا "اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لئے گواہی ہو اور تب خاتمہ ہوگا (متی باب ۲۴: ۱۴ آیت) اس لئے جب تک انجیل یعنی مسیحی مذہب کی منادی واقعی تمام دنیا میں نہ ہو لے اس وقت تک خدا کی طرف سے کوئی اور طریق مسیحیت کو منسوخ کرنے کے لئے نہیں آئے گا۔ علاوہ بریں جبرائیل فرشتہ نے جب کنواری مریم کو سیدنا عیسیٰ مسیح کی پیدائش کی خبر دی تو خدا کا یہ پیغام پہنچایا "اس کی (یعنی مسیح کی) بادشاہی کا آخر نہ ہوگا" (لوقا باب آیت ۳۳)۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کریں اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ سیدنا عیسیٰ مسیح آخری نبی ہیں۔ اور یہ کہ ان کے سوا "آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پاسکیں" (اعمال باب ۴ آیت ۱۲)۔

مَشَا

کَلِ الْحَقُّ
مَحْفُوظَةٌ